



الزهرا لائبریری اور میسٹری لائبریری

شیخ محمد فضیل احمد دہلوی مظاہری

محمد وسیم رضا قادری

www.islamiuurdubook.blogspot.com



لائبریری میسٹری لائبریری
www.islamiuurdubook.com
لائن ڈرامہ

لائبریری
2100-00-0000
لائن ڈرامہ
www.islamiuurdubook.com

آمد روحانی اور میلاد جسمانی

تصنیف : فیض ملت، آفتابِ اہلسنت، امام المذاکرین، رئیس المصنفین

حضرت علامہ الحافظ مفتی محمد فیض احمد اویسی رضوی مدظلہ، العالی

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله وحدة الصلوة والسلام على من لا نبي واصحابه واهل بيته

حضور سرور عالم نور مجسم ﷺ میں تشریف لانے سے پہلے "من حیث النبی" "عالم بالا میں تشریف فرمائے۔ ان عوالم بطور پھر عوالم ظہور نبوت کے امور سر انجام دیتے رہے یہ بہت بڑی تفصیل اور خنیم تصنیف کی مقاضی ہے۔ اسے فقیر نے اپنی تصنیف "نور کی سیر" میں جمع کیا ہے۔ یہاں اجمالی خاکہ حاضر ہے۔

کنز مخفی

حدیث قدیم میں ہے۔ کفت کنزا مخفیا احبت ان اعرف "میں مخفی خزانہ تھا ارادہ ہوا کہ پہچانا جاؤں۔" بنابریں حسن حقیقی کا جلوہ قدیم اپنی شانِ احادیث سے بزم شہود کی طرف منعکس ہوا اور آئینہ محمدی بن گیا۔ انوارِ صدیقی کی تابشوں سے آئینہ محمدی نورِ ازیلی کا مظہر اتم ہو گیا ہے۔

حقیقت محمدیہ میں نورِ خداوندی کے جلوے چمکے اور اس کی ضوبار کرنوں سے کن فیکون کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لوح، قلم، عرش، کرسی، جنت، دوزخ، جن، بشر، ملائکہ، زمین، آسمان غرض بزمِ کونین کی ہر شے اسی نورِ محمدی کی آئینہ دار ہے۔

حدیث جابر

ہمارے مذکورہ بالا اجمالی بیان کی تفصیل میں ہے جو مند عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ مروی ہے حضور سرور عالم ﷺ میں

نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری من نورہ یا جابر۔" اے جابر سب سے اول جو چیز اللہ عزوجل نے پیدا فرمائی وہ میرا نور ہے جس کو اس نے اپنے نور سے پیدا کیا۔" پھر اس نور سے جملہ کائنات ظاہر ہوئی۔ تفصیل فقیر کے رسالہ "جل متن" میں ہے۔

فائده: جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ﷺ کا نور پیدا فرمایا تو اس صورت پر پیدا فرمایا جو صورت آپ کی عالم شہادت یا عالمِ دنیا میں تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ وہ نور محض تھا اور یہاں عالم امکان میں وہ نور بشریت سے جمع ہوا کہ اس کے سبب سے آپ کی بشریت بھی نور مجسم تھی۔

نورانی بشریت

(۱) یہی وجہ تھی کہ آپ کا سایہ نہیں تھا (۲) آپ کے جسم پر کمھی نہیں تیٹھی (۳) آپ کے جسم اور آپ کے پینے سے خوشبو مہکتی تھی (۴) آپ کے رخسار میں جو چیز ہوتی اس کا عکس اور پرتو دیکھا جاتا (۵) جب آپ ہستے تو دانتوں سے نور لکھتا دکھاتی دیتا (۶) آپ کئی کئی دن رات کو افطار کئے بغیر روزہ رکھتے تھے اور جسم پر اضمحلال وضعف کا اثر نہیں ہوتا تھا۔

نورِ خدا کی زمین کی طرف روانگی و سیر

وہی نور سیدنا آدم علیہ السلام کی پیشانی میں ودیعت رکھا گیا جسے ملائکہ دیکھنے کے لئے ہر وقت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے گرد گھومتے تھے چنانچہ تفسیر بحر العلوم تفسیر بحر العلوم میں ہے کہ جب وہ نور مبارک آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیشانی میں ودیعت رکھا گیا ملاعِ اعلیٰ میں ان کی تعظیم و توقیر ہونے لگی جس طرف گزر فرماتے پرے کے پرے ملائکہ ان کے پیچھے برائے اکرام و احترام جاتے۔ ایک روز جناب باری عزوجل سے سبب اس کا دریافت کیا خطاب آیا کہ آدم جو نور تمہاری پیشانی میں جلوہ گر ہے اس کی تعظیم و توقیر کا یہی سبب ہے۔ عرض کی الہی اسے میرے کسی عضو میں منتقل فرما کہ میں اسے دیکھوں اور اس کے دیدار فیض آثار سے اپنے قلب کو مسرور اور آنکھوں کو منور کروں چنانچہ باستدعاۓ آدم وہ نوران کی سبابہ دستِ راست میں منتقل فرمایا گیا۔ جب آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو دیکھا انگلی اٹھا کر کلمہ شہادت ادا کیا اور **قرۃُ عینیِ بکِ یا محمد** (صلی اللہ علیہ وسلم) کہہ کر صلوٰۃ وسلام عرض کیا اور اس انگلی کو بوسہ دے کر آنکھوں سے لگایا اسی وجہ سے ہم اذان میں نبی پاک ﷺ کا اسم گرامی سنکر انگوٹھے چوتھے ہیں جس کی تفصیل کتب کلامیہ میں ہے۔ پھر وہ نور پاک ارحام میں منتقل ہوتا رہا جیسا کہ صحاح کی روایت میں ہے۔

قصیدۃ عباس

اجمالی اشارہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصیدہ مبارکہ میں ہے جسے موائبہ لدنیہ و دیگر سیر کی کتب میں نقل کیا گیا ہے وہ فرماتے ہیں۔

وَمِنْ قَبْلِهَا طَبَتْ فِي الظَّالَالِ وَفِي مَسْتَوْرِعِ حِيثِ يَخْتَصِفُ الْوَرْقُ۔

اس سے پہلے آپ پاک تھے۔ جب کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام درختوں کے سایہ میں اور امامت گاہ میں لپٹ رہے تھے

ثُمَّ هَبَطَتِ الْبَلَادُ وَلَا بَشَرٌ

إِنْتَ وَلَا مَضْغَةٌ وَلَا عَلْقٌ

پھر آپ شہروں میں اترے اور آپ بشر نہ تھے۔ اور آپ نہ گوشت تھے اور نہ آپ خون بستہ تھے۔

بَلْ نَطْفَتُهُ تَرَكَ السَّفَيْنِ وَقَدْ

الْجَسْمُ نَسَرٌ أَوْ أَهْلُهُ الغَرْقِ

بلکہ آپ بشری اوصاف میں نہیں آئے تھے جبکہ کشتی میں سوار ہوئے اور نسر نامی بُت کو لگام دی گئی

اور اس کے پیچاری غرق ہو گئے۔

مُنْتَقِلٌ مِّنْ صَالِبٍ إِلَى رَحْمٍ

إِذَا مَضَى عَالَمٌ بَدَأْ طَبَقَ

اور پشت پدر سے شکم مادر میں تشریف لاتے تھے۔ جبکہ ایک زمانہ گزرتا تو دوسرا شروع ہوتا۔

وَأَنَّ لَمَّا وَلَدَ كُلُّ أَشْرَقَ

الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بَنْوِكَ الْأَفْقَ

اور جب آپ پیدا ہوئے تو زمین روشن ہوئی اور آپ ملائکہ کے نور کی ضیا سے یہ جہاں جگم گایا!

حَتَّىٰ اخْتَوَى بَيْتَكَ الْمُهَيْمِنُ مِنْ

خَنْدَفٍ عَلَيْهِ تَعْتِيَهَا النُّطُقُ

حتیٰ کہ آپ کی خاندانی شرافت سب کو حاوی ہو گئی۔ عمدہ نسب خندف اور ادنیٰ نسب نقط کو آپ سے شرف ملا۔

فَنَحْنُ فِي ذَالِكَ الضَّيَاءِ فِي النُّورِ

وَسَبِيلُ الدَّشَاءِ مَحْتَرِقٌ

پھر ہم اس روشنی میں ہیں اور نور میں ہیں۔ اور ہدایت کے راستے پر ہم بھلی کی طرح ترقی کر رہے ہیں۔

وَرَدَثُ نَارَ الْخَلِيلِ مُكْتَمِّلًا

فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ تَحْتَرِقُ

آپ آگ میں اترے جب ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام آپ کے امانت دار تھے تو پھر بہر حال یہ نور پشت بہ پشت

حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچا۔

عالم بالا میں مشاغل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم

چونکہ حضور سرور عالم ملائکہ کے نبی و رسول ہیں اس لئے آپ ہر عالم میں تبلیغ توحید میں مصروف رہے۔ وہ عوالم بطور ہوں یا عوالم ظواہر۔ ہر ایک کی تفصیل کے لئے ضخیم مجلدات درکار ہیں با اجمانی چند جھلکیاں ہدیہ ناظرین ہیں۔

عالم انسانیت کے وجود سے پہلے:

سب کو معلوم ہے کہ انسان و بشر اور آدمی با وجود حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق سے وابستہ ہے یہاں تک کہ حضور ملائکہ کی آدمیت و بشریت بھی۔ لیکن حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی حقیقت محمدیہ اس سے قبل پہلے موجود تھی اور صفت نبوت سے موصوف۔

چنانچہ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ ملائکہ سے حدیث روایت کرتے ہیں ”تحقیق میں اللہ کے نزدیک اس حال میں خاتم النبین لکھا ہوا ہوں کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام روح اور بدن کے درمیان تھے (یعنی ان کا پتلہ زمین پر بے جان موجود تھا اور اس میں روح داخل نہیں ہوئی تھی) ایک روایت میں ہے کہ آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام زمین پر اپنی گوندھی ہوئی مٹی میں تھے (یعنی آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام آب و گل کے درمیان تھے یعنی ان کا پتلہ بن رہا تھا ابھی مکمل طور پر تیار نہ ہوا تھا اور اس میں روح نہ پھونکی گئی تھی) میں اسوقت بھی نبی تھا۔ ملخصاً

فائدة: اس حدیث سے حضور ملائکہ کی روحانی ولادت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ تخلیق آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے قبل خاتم النبین لکھے جا پکے تھے اور آپ کی نبوت فرشتوں اور روحوں میں ظاہر کردی گئی تھی جیسا کہ وارد ہے کہ آپ کا اسم مبارک عرش، آسمان، محلات بہشت اور اسکے بالا خانوں، حور عین کے سینوں، جنت کے درختوں کے چتوں، شجر طوبی، فرشتوں کی آنکھوں اور بھوؤں پر لکھا ہوا تھا، بعض عرفاء کا کہنا ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی روح مبارک عالم ارواح میں روحوں کی اسی طرح تربیت کرتی تھی جس طرح دنیا میں تشریف لانے کے بعد جسم مبارک کے ساتھ اجسام کی مر بی تھی ارواح کا ابدان سے پہلے

پیدا ہونا بلاشبہ ثابت ہے۔

سب سے اول:

احادیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ:

(۱) آپ ﷺ کا نور سب سے پہلے تخلیق کیا گیا۔ (۲) جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے آپ ﷺ نے ایک مرتبہ دریافت فرمایا کہ اے جبریل (علیہ الصلوٰۃ والسلام) آپ نے اپنی تخلیق کے بعد کیا دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہر ستر ہزار سال بعد ستر ہزار مرتبہ ایک نور دیکھا۔ ارشاد ہوا یہ میرا ہی نور تھا۔ آپ ﷺ سے پوچھا گیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس چیز سے بنایا؟ فرمایا ”مجھ سے پہلے کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی تھی“، لہذا کسی چیز سے میری پیدائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے میرا نور پیدا فرمایا اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ عرض کیا گیا جب اللہ نے آپ کو اپنے نور سے بنایا تو اتنا نور اللہ کے نور سے کم ہو گیا جس میں کمی و بیشی ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ”یہ سورج جو اللہ کی مخلوق ہے یہ جب سے بناتا ہے اپنے نور سے دنیا کو منور کر رہا ہے روز اول سے نکل رہا ہے کیا اس طرح اس کے نور میں کوئی کمی ہوئی ہے۔ عرض کیا گیا نہیں۔ فرمایا جب اللہ کی ایک نورانی مخلوق کا یہ مقام ہے تو اللہ کے نور میں کمی بیشی کیسے ہو سکتی ہے۔

(مفہوم از حدیث جابر رضی اللہ عنہ)

عالم میثاق میں ایک نورانی جلسہ کی روئنداد

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

”وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّنَ لِمَا أَتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَ حِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَا أَمَعَكُمْ لَعُوهُ
مِنْ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ طَقَانٌ أَفَرَأَتُمْ وَأَخَذَتُمْ عَلَى ذِلِّكُمْ إِصْرِي طَقَالُو افْرَنَا طَقَالَ فَاشْهَدُو اوَآتَا
مَعَكُمْ مِّنَ الشُّهِيدِينَ فَمَنْ تَوَلَّ بَعْدَ ذَلِّكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ۝

(پارہ ۳، آل عمران)

ترجمہ: اور یاد کرو جب اللہ نے پیغمبروں سے اُن کا عہد لیا وہ رسول کہ تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا فرمایا کیوں تم نے اقرار کیا اور اس پر میرا بھاری ذمہ لیا سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا فرمایا تو ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں آپ تمہارے ساتھ گواہوں میں ہوں تو جو کوئی اس کے بعد پھرے تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ (کنز الایمان)

فائده: اس آیت پر امام بکری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مستقل ایک تصنیف لکھی ہے اسکی تنجیص حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے **خاصص کبریٰ** میں فرمائی اور نہایت جامع طریقہ سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سرہ نے ”**تجلی الحقائق**“ میں بیان فرمایا ہے۔ فقیر نے ان بزرگوں کے فیض سے مفضل طور پر ”**آیۃ میثاق النبین**“ میں عرض کیا ہے۔ آیت کا خلاصہ ملاحظہ ہو:

خلاصہ:

اس آیت میں حضرات انبیاء علیٰ نبینا و علیہم السلام سے جس میثاق کا ذکر ہے یہ عہد خاتم المرسلین ﷺ کے لئے عالم ارواح ہی میں لیا گیا تھا۔ اس میثاق سے بھی حضور ﷺ کی روحانی ولادت کا پتہ چلتا ہے کہ سب سے اول آپ کا روحانی وجود ہی معرض وجود میں آیا اور پھر تمام انبیاء کے روحانی وجود سے یہ عہد لیا گیا کہ دنیا میں جانے کے بعد تم میں سے اگر کسی

کے زمانے میں پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی تشریف لے آئیں ان پر ایمان لانا اور ان کے مدد و معاون بننا سارے نبیوں اور رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا کرنے کا عہد کیا اسی طرح حضور پر ایمان لا کر جملہ انبیاء و رسول آپ کے امتی بن گئے۔ ہر نبی اور ہر رسول نے دنیا میں آنے کے بعد یہی عہد اپنی اپنی امت سے لیا اور اسے تائید کی کہ اگر وہ محمد رسول اللہ ﷺ کا زمانہ پائے تو آپ ﷺ پر ایمان لائے اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ بھی سنائی کہ جو اس معاهدہ سے پھر جائے گا تو وہ فاسق یعنی نافرمان اور گنہگار ہو گا۔

مضمون کی نزاکت:

اس نورانی مجلس کا بیان بے مثال خالق کائنات کا جسے کسی طریقہ سے مثال نہیں دی جاسکتی اور ظاہر ہے کہ میر مجلس حضور سرور عالم ﷺ کے سوا اور کون ہو سکتا ہے گویا اس نورانی مجلس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے بارے میں انبیاء علیہم السلام سے عہد و معاهدہ کے بعد انہیں نبوت و دیگر مراتب و کمالات سے نوازا۔

اسکے مزید اطاعت و نکات فقیر کی تصنیف "تفسیر آیۃ میثاق النبین" میں موجود ہے۔

عالم انسانیت میں نزول اجلال

ہم حضور سرور عالم ﷺ کو عالم بشریت میں بشرمانستے ہیں لیکن نہ اپنے جیسا بلکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ ﷺ کی حقیقت اصلیہ تو نور ہے یہ نور جس بشری وجود میں آیا اس نے اسے بھی نورانی بنا دیا جس کی لطافت کا یہ عالم ہے کہ آپ جسم و روح سمیت آسمانوں کی سیر کے لئے تشریف لے گئے یہ سیر مراجع کے نام سے مشہور ہے۔ مادی جسم سے اس قسم کی پرواز ناممکن ہے۔ بہر حال آپ ﷺ عالم بشریت میں تشریف لائے آپ کی آمد کا ذکر خیر ملاحظہ ہو۔

حضرت عبد اللہ ؓ کی پشت میں:

مردی ہے کہ جب وہ نور محمدی ﷺ پیشانی حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں چکا تمام عرب میں ان کے حسن و جمال کا شہرہ بلند ہوا۔ جو ق در جو ق یہود آتے اور دیکھ کر کہتے کہ یہ نور عبد اللہ کا نہیں ہے۔ بلکہ محمد ابن عبد اللہ خاتم الانبیاء کا نور ہے جو ان کی پشت سے پیدا ہوں گے۔ اب تو تمام یہود کے سینہ میں آتشِ حسد شعلہ زن ہوئی اور حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی فکر کرنا شروع کی۔ ایک دن حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکار میں جانے کی خبر پا کر نوئے شخص تکواریں زہر آلو دہ ہاتھوں میں لے کر بارا دہ قتل حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے اور ایک جگہ انہیں اکیلا پا کر گھیر لیا مگر چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب ﷺ کا خود حافظ و نگہبان تھا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اسے اپنے نور کو کامل کرنا منظور تھا وَاللَّهُ مُتَمَّمٌ نُورٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لہذا نور اسوار ان غیبی بحیج کردم زدن میں ان نا نجاحوں کو قتل کرایا اور اپنے پیارے حبیب ﷺ کے نور کو ضائع ہونے سے بچایا۔ الغرض جب حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن بلوغ کو پہنچ تو بڑی زنان عرب صاحب شروت وجاهہ رہک مہر و ماہ ان کا حسن دل ربا و جمال جہاں آراء دیکھ کر عاشق و متواں ہوئیں اور نکاح کی خواہش ظاہر کرنے لگیں یہاں تک کہ بہت سی ان پر فریفہ ہو کر بسر راہ مثل ز لیخا بیٹھ جاتیں اور ان کے نور و نور السرور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھہنڈا اور قلب کو مسرو رکرتیں۔ اور بر مز و کنایہ اپنی خواہش دلی ظاہر کرتیں انھیں اپنی جانب بلا تین مگر حضرت عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتائید غیبی و برکت نور محمدی انکی جانب ذرا بھی میل نہ فرماتے نگاہ اٹھا کرنے دیکھتے جن کی بابت روایات کثیرہ کتب سیر میں مسطور ہیں مجملہ ان کے روایت ہے کہ ایک عورت کا ہنہ فاطمہ بنت مرحہ نہایت حسین و جمیل و نیک سیرت کتب سماویہ کی عالمہ

تحمیں جب اسے حسن و جمال عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر پڑا اور انگلی پیشانی میں نور آفتاب فلک رسالت تاباں و درخشاں دیکھا بہ اشتیاق تمام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلا کر استدعا مواصلت کی اور سوانح دینے کا وعدہ کیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے انکار کیا اس طرح لیلی عدویہ نامی عورت حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طالبہ قربت ہوئی آپ نے انکار کیا جب آپ کا نکاح حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ عنہا سے ہوا اور وہ نور کرامت ظہور ان سے منتقل ہو کر بی بی آمنہ کے شکم اطہر میں جا گزیں ہوا۔

قطع دور:

مواہب لدنیہ و دیگر کتب سیر میں ہے کہ قبل حمل میں آنے اُس نور پاک صاحب لاواک کے دہر میں نقطہ عظیم پڑا تھا زمین پر سبزہ کا نام نہ رہا تھا تمام درخت سوکھ گئے تھے حیوان و انسان میں جان کے لالے پڑ گئے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے جبیب ﷺ کو بطن مادر میں خلق فرمایا اور انگلی برکت سے پانی بر سایا نقطہ دفع فرمایا زمین سر ببر و شاداب ہوئی، سبزہ اگا، غلہ پیدا ہوا، شجاع پھولے پھلے، میوں سے لدے مردہ تنوں میں جان آئی، مشرق و مغرب کے تمام چند و پرند اور قریش کے جملہ چوپاؤں نے خوشی منائی اور آپس میں ایک نے دوسرے کو اس رحمت عالم آفتاب عرب و عجم کے شکم مادر میں جلوہ فرمائے کی خوشخبری سنائی۔ درونہ بہشت و مالک دوزخ کو فرمان الہی پہنچا کر درع کی بہشت کشادہ اور ابواب دوزخ بند کرے اور آسمان وزمین میں ندادے کہ آج وہ نور مخزوں اور گوہر مکون شکم مادر میں رونق افروز ہوا کوئی عورت اس سال اڑکی نہ جنے ہر ایک نے اس نور پاک کے صدقے میں اڑکے جنے۔

بطن آمنہ میں

مردی ہے کہ جب زمانہ تولد حضور پر نور شافع یوم النشور قریب آیا اور بشاراتِ غیبیہ پے در پے ہونے لگیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہ تقاضائے بشریت خالق ہو کر قریش کی عورتوں سے حال ظاہر کیا ان ناقصات عقل نے آسیب و خلل تجویز کیا اور ایک طوق آہنی موافق اعتقاد جاہلی انھیں بنوا کر پہنچایا۔ رات کو خواب میں نظر آیا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں اے آمنہ تمہارے شکم میں سید الانبیاء سند الاصفیا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ الحسینیہ والثاء تشریف فرمائیں اور تم نے طوق آہنی گلے میں ڈالا ہے اور اس طوق کی طرف انگلی سے ارشادہ فرمایا جس سے وہ طوق کٹ کر گریا۔

آپ نے عرض کیا میں ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا ہوں۔ الغرض جب نوماہ کامل مدت حمل کے پورے ہوئے اور وقت ظہور نور موفور السرور قریب آیا عرش سے فرش تک بساط فرحت و سرور بچھایا گیا عرش و کرسی کو لباس نور پہنایا گیا ملائکہ آسمان و حور و غلمان کو آراستہ پیراستہ ہونے کا حکم سنایا گیا درہائے جنан و آسمان مفتوح ہوئے ابواب دوزخ بند کئے گئے، ستارے مائل بزمیں ہوئے گویا فلک اخضر نے اس شہنشاہ ذی جاہ پر اطمیق زرو جواہر پنجحاور کئے، چوپائے قریش کے خوشی خوشی بولنے لگے، مشرق و مغرب کے چند و پرند خوشیاں منانے ترانہ فرحت انبساط گانے اور آپس میں ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، تخت سلاطین و شیاطین اوندھے اور بت روئے زمیں کے سرگوں ہوئے، بادشاہان روئے زمیں ایک دن کامل لب نہ ہلا کے چکے عالم سکوت میں رہے۔ ابلیس پر تلبیس کو ایک فرشتہ چالیس شبانہ روز دریاؤں میں غوطہ دیتا رہا جس کے صدمہ سے وہ رو سیاہ ہوا، ایوان کسری کا نپ کر پھٹ گیا اور اس کے چودہ کنگره کا نقصان ہوا اور دریائے ساوہ خشک ہوا، آگ فارس کی جو ہزار سال سے روشن تھی بجھ گئی، نہر ساوہ جو ایک مدت سے خشک تھی جاری ہوئی۔ کعبہ معظمہ خوشی میں آکر جھوما اور مقام ابراہیم میں سجدہ کیا

اور بربانِ فَسْحَى کہا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر رب محمدِ مُصطفیٰ الٰئَنْ قَدْ طَهَرَنِی رَبِّیْ مِنْ انجاسِ الا صنام
وار جاس المشرکین۔ اللہ بہت بڑا ہے اللہ بہت بڑا ہے پروردگار محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ اب بے شک پاک کیا مجھکو میرے
رب نے بتوں کی ناپاکی اور مشرکین کی پلیدی سے۔ تین علم ایک مشرق اور دوسرا مغرب اور تیسرا بام کعبہ پر نصب کیا گیا، تمام
عالم نور و سور سے بھر گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے گھر کی ہرشے نور سے معمور ہوئی، درد و مصیبت ان سے دور ہوئی۔
ملائکہ سماں و حور ان جنان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت اور حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی حفاظت کے واسطے آئیں اور حضرت
مریم و آسمیہ رضی اللہ عنہم بھی ان کے ہمراہ تشریف لائیں۔

ولادت مبارک کی برکات

مواہبِ لدنیہ میں حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی والدہ ماجدہ سے مروی ہے کہ جب حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ پیدا ہوئے تو آپ کے ہمراہ ایسا نور پیدا ہوا کہ
مشرق سے مغرب تک روشن و منور ہو گیا اور میں نے اسکی روشنی میں بصرہ و شام کے مکانات دیکھے۔ جب آپ پیدا ہوئے
پہلے بار گاہِ الہبی میں سجدہ فرمایا اور انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنَّمَا رَسُولُ اللَّهِ پھر ہم
گنہگار ان امت کی یاد آئی اور ان کے واسطے اس طرح مغفرت فرمائی **يَا رَبِّ هَبْ لِي أُمَّتِيْ**، اے رب میری گنہگار امت
مجھے دے ڈال اے عزیز و ایسے رحیم و شفیق نبی پر ہزار جان و دل سے قربان و نثار ہونا چاہئے کہ بعد ولادت وادائے کلمہ شہادت
واظہار شان رسالت تمہاری ہی یاد آئی اور تمہاری رستکاری کی دعا فرمائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی دعا قبول
فرمائی اور اس طرح جواب عطا فرمیکر حضور کی وجہی فرمائی کہ **وَهَبْتُكَ أُمَّتَكَ بِأَعْلَى إِهْمَاتِكَ** ہم نے تمہاری امت اعلیٰ
ہمت و بلند حوصلہ کے باعث تمہیں دے ڈالی۔ پھر فرشتوں سے خطاب ہوا۔ **أَشْهَدُ وُلِيًّا مَلِينَجِتِيْ أَنَّ حَبِيبِيْ لَا يَنْسِيْ**
أَمَّتَهُ عِنْدَ إِلَوَالَّا دَتِ فَكَيْفَ يَنْسَا هَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ۔ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ۔ میرے محبوب (صلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ) جب
ولادت کے وقت امت کو یاد فرمائے ہیں تو قیامت میں انھیں کب بھول سکتے ہیں۔

اویسی فقیر کی عرض

اویسی قادری رضوی فقیر غفرلہ اپنے آقا کریم روف الرحیم صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ سے عرض کرتا ہے کہ
ہر انسان اپنی بشریت کو ذہن میں رکھ کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشریت پر غور کرے مثلاً آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کا جسد مبارک کیا
طیب و ظاہر تھا۔ خود فرمایا، **خَرَجَتْ مِنْ اَصْلَابِ الطَّاهِرِينَ إِلَى اَرْحَامِ الطَّاهِرَاتِ**۔ میں پاک صلبوں سے ہوتا ہوا
پاک رحموں میں آیا ہوں۔ معتبر روایات سے ثابت ہے کہ نور محمدی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ اصلاب و ارحام سے منتقل ہوتا ہوا حضرت عبد اللہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا جو ہر دور میں پیشانیوں میں چمکتا رہا اور جب دنیا میں حضور
صلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی جسمانی ولادت ہوئی تو اس نور کا پیر ہن ہی جسم اطہر بناء جس نے آپ کے طیب و ظاہر وجود کو سراپا نور بنادیا۔ یہی وہ نور
تھا کہ آپ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی ولادت کے وقت ظہور میں آیا تھا۔

حدیث شریف:

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث کے آخری الفاظ یہ ہیں حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں **وَقَدْ**
خَرَجَ لَهَا نُورًا أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ اور تحقیق میری ولادت کے وقت میری والدہ کے لئے ایک نور ظاہر ہوا کہ
جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی انہوں نے اپنی جگہ (مکہ) ہی سے شام کے محلات کو ملاحظہ فرمایا۔ حضور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖہ وَسَلَّمَ کی

جسمانی ولادت کے متعلق یہ خیال کرنا کہ آپ اسی طرح پیدا ہوئے ہیں جس طرح ہر انسان پیدا ہوتا ہے درست نہیں بلکہ سوے ادبی ہے۔

قول مجدد الف ثانی ﷺ:

حضرت مجدد الف ثانی علیہ رحمۃ الرحمٰن فرماتے ہیں ”باید دانست کہ خلقِ محمدی درونگ خلق سائر افراد انسانی نیست بلکہ بخلقے ہیج فردے از افراد عالم مناسبت ندارد کہ او ﷺ با وجود منشاء عنصری از نورِ حق و علی مخلوق گشته است کما قال علیہ الصلوٰۃ والسلام خُلِقْتُ مِنْ نُورِ اللّٰهِ۔“

ترجمہ: ”جاننا چاہئے کہ محمد ﷺ کی پیدائش کے رنگ میں نہیں ہے بلکہ کسی مخلوق کے تمام عالم افراد سے کسی فرد کی پیدائش میں مناسبت نہیں رکھتے اس لئے کہ آپ ﷺ با وجود عنصری پیدائش کے اللہ جل و علی کے نور سے پیدا ہوئے ہیں جیسا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے خود فرمایا کہ میں اللہ کے نور سے پیدا کیا گیا ہوں۔“

استاد القبهاء حضرت علامہ خیر الدین رملی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔ ”جس شخص نے حضور ﷺ کی فضیلت بیان کرنے کے دوران یہ کہا کہ حضور ﷺ نے مخراج بول سے نکلے ہیں تو اسے قتل کیا جائے گا اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جائیگی اور اگر آپ ﷺ کا ذکر صلحاء کے ذکر میں کیا یا ارادہ کیا کہ آپ بشر ہیں پھر ایسی بات کہی تو اسے قتل تو نہیں کیا جائیگا مگر سخت مار پیٹ کی جائے گی اور اگر کسی کے جواب کے بغیر محض اپنے کلام میں کہا تو وہ قتل کیا جائیگا اور اسکی توبہ کو قبول نہیں کیا جائیگا۔“ اس مسئلہ کی تحقیق کے لئے دیکھئے فقیر کا رسالہ ”گستاخی کس چیز کا نام ہے“ یہ رسالہ مطبوعہ ہے۔

احادیث مبارکہ:

- (۱) حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ ”تم میں میری مانند کوئی نہیں۔“
- (۲) فرمایا تم میں کون میری مانند ہے؟ میں رات کو اپنے رب کا مہمان ہوتا ہوں۔ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔
- (۳) فرمایا تم میں کوئی میری طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے میرے لئے کھلانے پلانے والا مقرر کیا جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔
- (۴) فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میری ملاقات کا ایک ایسا وقت مقرر ہے کہ اس میں کسی نبی یا رسول یا مقرب فرشتے کی رسائی نہیں۔
- (۵) فرمایا کہ میں جسم کی ساخت میں بھی تم جیسا نہیں ہوں۔

فضلاط طیبہ طاہر و دیگر خصوصیات

احادیث سے ثابت ہے کہ آپ ﷺ کے بول و برآزانشان زمین پر نظر نہیں آتا تھا زمین اسے جذب کر لیتی تھی۔ آپ ﷺ کے لعاب دہن سے کھارا پانی میٹھا ہو جاتا تھا، یہار یاں دور ہو جاتی تھیں، صحابہ کرام ﷺ الرضوان وضو کے وقت آپ ﷺ کے گرد جمع ہو جاتے تھے، آپ ﷺ کے کنکھا را اور لعاب کو ہاتھوں پر لے لیتے تھے اور جسم پر مل لیتے تھے جن سے مشک و غربز جیسی خوشبو آتی تھی، آپ ﷺ جس طرح اپنے سامنے دیکھتے تھے اسی طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتے تھے، جیسے قریب سے دیکھتے اسی طرح دور سے بھی دیکھتے تھے، تاریکی اور روشنی میں آپ ﷺ یکساں دیکھتے تھے، آپ ﷺ کی انگشت مبارک کے اشارے سے سورج پلٹا، چاند دو ٹکڑے ہوا، انگشت ہائے مبارک سے پانی کے چشمے بہے۔

ولادت مبارکہ کی خصوصیات

آپ کی جسمانی پیدائش کے بارے میں ارباب سیر نے لکھا ہے کہ آپ ﷺ ناف بریدہ، ختنہ شدہ، سرگیں آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوئے۔

اطباء کی تحقیق یہ ہے کہ جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اپنی غذا ناف کے ذریعہ حاصل کرتا ہے۔ ماں جو کچھ کھاتی ہے اس کا کچھ حصہ ناف کے راستے بچہ کی غذا کا کام دیتا ہے اور اس غذا سے اس کی نشونما ہوتی ہے پیدا ہونے کے بعد یہ ناف کاٹ دی جاتی ہے۔ پھر بچہ منہ کے ذریعہ سے اپنی غذا حاصل کرتا ہے لیکن نبی پاک ﷺ کیلئے ایسا نہیں اطباء نے یہ بھی لکھا ہے کہ حمل کے دوران عورت کی ماہواری ختم ہو جاتی ہے اور یہ خون بھی بچہ کی غذا کا کام دیتا ہے۔ حضور ﷺ کے لئے ایسا تصور تو بہ تو بہ۔

ناف بریدہ

حضرت ﷺ جب ناف بریدہ پیدا ہوئے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ شکم میں آپ ﷺ کی پرورش اور بچوں کی طرح نہیں ہوئی اور کوئی ایسی غذا ماں کے ذریعہ سے آپ ﷺ کو نہیں ملی جو بطن مادر میں بچوں کو ملا کرتی ہے۔ یہاں بھی آپ کے جسم کی نشونما ایسی روحانی غذا سے ہوئی جس میں کوئی بچہ آپ ﷺ کا شریک نہیں۔

لہذا یہ کہنا درست ہوگا کہ آپ ﷺ کی جسمانی ولادت بھی ایک معجزہ کی حیثیت رکھتی ہے جس کی مثال ناممکن ہی نہیں بلکہ محال ہے کیونکہ آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کہنا ہے کہ میں ان تمام کیفیات سے دوچار نہیں ہوئی جن کا عام طور پر تمام عورتوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے اور نہ آپ کی جسمانی ولادت کے وقت میں نے کوئی آلاش دیکھی جیسے کہ بچوں کی ولادت کے وقت دیکھنے میں آتی ہے۔ مزید تفصیل و تحقیق فقیر کے رسائل ”فضلالات طیب و طاهر“ میں ”خوبی رسول“ وغیرہ وغیرہ کا مطالعہ کیجئے۔

مدینے کا بھکاری

ابوالصالح محمد فیض احمد اویسی رضوی غفرلہ